



سوال

عورت کا بیوٹی پارلر جانا

جواب

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اصولاً عورت کے لیے ضروریات زندگی، مستحبات اور مباحات کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے۔ پس عورت اپنی تزیین و آرائش کے لیے بیوٹی پارلر جاسکتی ہے بشرطیکہ شرعی اصول و ضوابط کی پاسداری کی جائے مثلاً عورت ستر و حجاب کی پابندی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے یا بیوٹی پارلر میں غیر شرعی کاموں سے اجتناب کرے مثلاً بھنویں بنوانا یا ستر میں شامل جسم کے اعضا کی ویسکس وغیرہ کروانے کے لیے ستر کو کھولنا وغیرہ یا خاوند کے علاوہ غیر محرم مردوں کے لیے تیار ہونا۔ وغیرہ

بذما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے

حدیث

جلد 2 کتاب الصلوٰۃ



مجلس البحث الإسلامي
مجلس البحث الإسلامي